

الْحُجْرَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ بڑھو آگے اللہ اور اسکے رسول سے اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی (ﷺ) کی آواز پر اور نہ زور سے بولو انکے روبروبات کرتے وقت جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے ایسا نہ ہو ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمکو نہ خبر بھی ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

بیشک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں

إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ آصْوَاتَهُمْ عِنْدَ

رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

کو رسول اللہ (ﷺ) کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جانچ لیا ہے اللہ نے جنکے دلوں کو تقویٰ کے لئے انکے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

بیشک وہ لوگ جو پکارتے ہیں تمکو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

اور اگر وہ صبر کئے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر آتے انکے پاس تو یہ ہوتا بہتر انکے لئے اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے رحیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اگر لیکر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو چھان بین کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ ضرر پہنچا دو کسی قوم کو نادانی سے۔ پھر ہونا پڑے تمکو اپنے کئے پر نادم۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ ط

اور جان رکھو کہ تم میں موجود ہیں اللہ کے رسول (ﷺ)۔ اگر وہ مان لیا کریں تمہارا

کہا بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے عزیز بنا دیا تمہارے لئے ایمان کو اور پسندیدہ بنا دیا اسکو تمہارے دلوں میں اور بیزار کر دیا تمکو کفر اور گناہ اور نافرمانی سے۔ یہی ہیں وہ جو راہ ہدایت پر ہیں۔

لَعْنَتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ

فضل سے اللہ کے اور احسان سے۔ اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اگر دو فریق مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان میں۔ پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جس نے زیادتی کری یہاں تک کہ وہ پٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر وہ پٹ آئے تو صلح کرا دو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف سے کام لو۔ بیشک اللہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَأَتْ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو
صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور
ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ
قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ
يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ تمسخر کریں مرد
مردوں سے ممکن ہے کہ وہ (جن کا مذاق اڑایا
گیا) ہوں بہتر ان سے۔ اور نہ عورتیں (تمسخر
کریں) عورتوں سے ممکن ہے کہ وہ (جن کا
مذاق اڑایا گیا) ہوں بہتر ان سے۔ اور نہ عیب
لگاؤ آپس میں اور نہ ایک دوسرے کے رکھو
برے القاب۔ برا نام ہے فسق ایمان لانے
کے بعد۔ اور جو نہ کریں توبہ تو وہ ہی ظالم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے بچتے رہو بہت
گمان کرنے سے۔ یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور
نہ ٹٹول کرو اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی
کسی کی۔ کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ
کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا تو تم ضرور

أَخِيهِ مَيْتًا فَكِرْهُتُمْوَهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

کراہیت کرو گے اس سے۔ اور ڈرو اللہ سے۔
بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

اے لوگوں بیشک ہم نے پیدا کیا تمکو ایک مرد اور
ایک عورت سے اور بنا دیا ہم نے تمکو قومیں اور
قبیلے تاکہ شناخت کرو آپس میں۔ بیشک تم میں
زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ
متقی ہے بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

کہتے ہیں یہ بدوی کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہدو
کہ نہیں تم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام
لائے ہیں اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان
تمہارے دلوں میں۔ اور اگر تم اطاعت کرو
گے اللہ اور اسکے رسول کی تو نہیں وہ کمی
کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی۔ بیشک
اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

بس مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور

اسکے رسول (ﷺ) پر پھر نہ پڑے شک
میں اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی
جانوں سے اللہ کی راہ۔ یہی ہیں جو سچے ہیں۔

وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

کہو کیا جتاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری۔ اور اللہ
تو جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے
زمین میں۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

یہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے۔
کمدو کہ نہ رکھو احسان مجھ پر اپنے اسلام کا بلکہ
اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ ہدایت دی اس
نے تمکو ایمان کی اگر ہو تم سچے۔

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا
تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

بیشک اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے آسمانوں اور
زمین میں۔ اور اللہ دیکھتا ہے اسے جو کچھ تم
کرتے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ ﴿١٨﴾

